

طوفان سے حفاظتی تدابیر کے متعلق پیغام

سائیکلون (سمندری طوفان) سیزن سے پہلے

- موسمی حالات کا بغور جائزہ لینے کے لئے ریڈیو ٹیلی ویژن پر موسم سے متعلق خبریں سنتے رہیں اسکے علاوہ کمیونٹی (عوام الناس) وارننگ سسٹم جیسا کہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات، گھنٹیاں و ڈھول بجا کر اور مساجد میں اعلانات کے ذریعے بھی باخبر رہا جاسکتا ہے۔
- نزدیکی سائیکلون شملز اور خطرے کی صورت میں پناہ کیلئے محفوظ جگہ کا پتہ رکھیں اور وہاں پہنچنے کے لئے محفوظ راستہ بھی ذہن نشین کر لیں۔
- اپنے گھر کے اندر اور ارد گرد محفوظ جگہ کا بھی تعین کر لیں۔
- مندرجہ ذیل اشیاء پر مشتمل ایک ایمر جنسی کٹ (بیگ) تیار رکھیں:
 - ایک چھوٹا ریڈیو اور نارچ اور ان کیلئے اضافی بیٹری (سیل)۔
 - پینے کیلئے تازہ پانی، خشک اور خراب نہ ہونیوالی کھانے کی چیزیں۔
 - ماچس، تیل سے جلنے والا چراغ، چولہا، کھانا پکانے والے اور کھانے والے برتن اور واٹر پروف بیگ۔
 - ابتدائی طبی امداد کا سامان (فرسٹ ایڈ کٹ)۔
 - چھوٹی آری، کلہاڑا اور پلاسٹک کی رسی۔
 - اس کے علاوہ دوسری چیزیں جنہیں آپ ضروری سمجھتے ہوں۔
- اپنے گھر کے در و دیوار اور کھڑکیوں کو چیک کریں کہ وہ محفوظ ہیں۔ اگر محفوظ نہیں تو انہیں وقت سے پہلے مرمت کروائیں۔ اگر ٹین کی چھت ہے تو اسے چیک کریں اور خراب جگہوں کی مرمت کروائیں۔ مٹی کی دیواروں کو پلاسٹک شیٹ یا میٹ سے ڈھانپ دیں، اگر ممکن ہو تو ڈنڈوں کے فریم کو گھاس کے میٹ سے ڈھانپ دیں۔
- درختوں کی صاف ستھری اور مکمل ٹہنیوں کے علاوہ ناکارہ ٹہنیوں کو کاٹ دیں اور جگہ کو لمبے سے صاف کر دیں۔
- اپنے بکھرے ہوئے سامان کو اکٹھا کر لیں تاکہ تیز ہوا چلنے کی صورت میں اڑنے یا ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔
- اشتہاری بورڈ کو اتار دیں یا اسے محفوظ بنانے کا انتظام کر لیں۔
- اگر آپ نچلے یا پانی آنے کی صورت میں زیر آب آنے والے علاقے میں رہتے ہیں تو اونچی جگہ پر پناہ لینے کیلئے چلے جائیں۔
- اپنے ضروری کاغذات مثلاً قرآن پاک یا دینی کتابیں، پاس بک، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، یوٹیلیٹی بلز، ریڈیو، وی لائسنس، تعلیمی اسناد، جائیداد کی ملکیت کے کاغذات وغیرہ مضبوط پلاسٹک بیگ میں محفوظ کر لیں اور ایمر جنسی کٹ (بیگ) کے ساتھ رکھ لیں تاکہ گھر خالی کرتے وقت اپنے ساتھ لے جاسکیں۔
- پہلے سے ایک جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں گڑھا کھود کر کھانے پینے کی چیزوں کو پلاسٹک بیگ میں محفوظ کر کے دبا سکیں۔
- اپنے علاقے میں موجود ریسکو و امدادی ٹیموں اور سرکاری اداروں کے رابطہ نمبر زاپنے پاس ہمہ وقت محفوظ رکھیں۔
- اپنے موبائل فون اور اس کی چارجنگ کی بیٹری کو اپنے پاس ہمہ وقت محفوظ رکھیں۔
- چھٹیروں کو ہدایات جاری کریں کہ وہ کھلے سمندر میں نہ جائیں۔ جو پہلے سے سمندر میں ہوں انہیں واپس محفوظ علاقے میں آنے کی ہدایت کریں۔
- چھٹیروں سے رابطہ کیلئے، ان کے نمائندہ کے متعلق تمام تفصیلات (فون نمبر، نام، پتہ وغیرہ) اپنے ساتھ رکھیں۔
- لوگوں کو سمندر میں نہانے سے منع کریں۔

- چھپوں، سمندری جہاز کے عملہ اور لوگوں کو موسمی حالات سے متعلق اطلاعات اور وارننگ جاری کرتے رہیں۔

سائیکلون (سمندری طوفان) آنے کی وارننگ ملنے کی صورت میں احتیاطی تدابیر

- کھلے سامان کو اندر سٹور کریں، اضافی اجناس / قیمتی اشیاء کو مضبوط پلاسٹک بیگ میں باندھیں اور گھر کی زمین میں محفوظ جگہ پر گڑھا کھودیں اور اوپر سے ڈھانپ کر دبا دیں۔ خالی پلاسٹک کے برتن پینے کے پانی سے بھر لیں۔
- اپنی حفاظت کیلئے اپنے پاس کپڑے رکھیں۔
- اپنے گھر کے اثاثہ جات کی لسٹ تیار کریں اور اپنے ارد گرد درخشا کاروں اور دوسرے اداروں کو اسکے متعلق معلومات دیں۔
- اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل میں ایندھن ڈلو کر رکھیں اور محفوظ جگہ کے نیچے پارک کریں۔
- بیل گاڑی، کشتی وغیرہ کو اپنے علاقے کی مضبوط پوسٹ پر کھڑا کریں جو درختوں سے دور ہوتا کہ درخت گرنے کی صورت میں کشتی اور دوسرے اثاثہ جات کو نقصان نہ پہنچے۔
- کھڑکیوں کے شلڈر (پاٹ) و کنڈیاں اور دروازے بند رکھیں، پالتو جانوروں کو اندر رکھیں اور باہر نہ آنے دیں۔
- گرم کپڑے، ضروری دوائیں، قیمتی اشیاء، کاغذات، پانی، خشک راشن اور دوسری ضروری اشیاء واٹر پروف بیگ میں ڈال کر ایمر جنسی رکٹ کے ساتھ رکھیں۔
- موسمی حالات سے متعلق معلومات و جائزہ لینے کیلئے مقامی ریڈیو اور کمیونٹی (عوام الناس) سے مسلسل رابطہ رکھیں اور وارننگ سسٹم کو غور سے سنتے رہیں۔
- شدید طوفان کی وارننگ کی صورت میں اپنے خاندان سمیت مضبوط پختہ عمارت میں چلے جائیں، تباہ کن طوفان کی وارننگ کی صورت میں اپنے خاندان کے ساتھ ضروری سامان، کاغذات اور ایمر جنسی رکٹ لے کر علاقہ کو خالی کر دیں۔ اپنے بچوں، بڑوں، بوڑھوں اور حاملہ خواتین کو بیماریوں سے بچانے کیلئے اُنکا خاص خیال رکھیں۔ یہ ہر گز نہ بھولیں کہ آپ کی ایمر جنسی خوراک کا ذخیرہ، پانی اور دوسری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں لہذا محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں۔
- چھپلی کے شکار کیلئے سمندر میں ہر گز نہ جائیں اور دوسروں کو بھی جانے سے منع کریں۔

وارننگ کی صورت میں مقامی جگہ پر منتقل ہونے کی احتیاطی تدابیر

- تیز طوفانی ہوا اور طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے کی صورت میں علاقہ کو خالی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سرکاری طور پر مقامی ریڈیو اور اطلاعات کے دوسرے ذرائع سے لوگوں کو ہدایت کرنی چاہئے کہ کب اور کہاں محفوظ علاقے کی طرف جانا ہے اس سلسلے میں درج ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے:
- مضبوط جوتے، چپل اور کپڑے پہنیں۔
- اپنے گھر کو اچھی طرح بند کریں، بجلی و گیس اور پانی کے کنکشن بھی بند کریں اور اپنی ایمر جنسی رکٹ (بیگ) اپنے ساتھ رکھیں۔
- اگر زیادہ دور دراز علاقے کو جانا ہو تو اپنا ضروری سامان، جانور ساتھ لیں اور سیلاب، طوفان اور ٹریفک جام سے بچنے کیلئے جلدی روانہ ہوں۔

- اگر نزدیک ہی اونچی جگہ جا رہے ہوں تو ایمر جنسی کٹ (بیگ) اور کم سے کم ضروری سامان ساتھ لیں۔

سائیکلون (سمندری طوفان) آنے کی صورت میں احتیاطی تدابیر

- بجلی کے تمام کنکشن منقطع کریں اور گیس بند کریں۔
- اگر عمارت ہلنا شروع کرے تو اپنے اوپر گدا، کمبل اوڑھ لیں اور مضبوط ٹیبل یا بیچ کے نیچے بیٹھ جائیں یا کسی فکس پائپ کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔
- حالات سے باخبر رہنے کیلئے اپنے ریڈیو کو غور سے سنتے رہیں۔
- اچانک ہوارکنے سے مخالف سمت کی کھڑکیوں کی حرکت رُک جاتی ہے۔ اس سے یہ اندازہ مت لگائیں کہ سائیکلون / سمندری طوفان ختم ہو چکا ہے لہذا سرکاری طور پر طوفان کے ختم ہونے کی اطلاع کا انتظار کریں۔
- اگر ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو رُک جائیں مگر سمندر، درختوں، بجلی کی لائنوں اور ندی نالوں سے دور کھڑے ہو کر گاڑی کے اندر ہی رہیں۔

سائیکلون (سمندری طوفان) ختم ہونے کی صورت میں احتیاطی تدابیر

- جب تک سرکاری سطح پر اطلاع نہ ملے باہر نہ نکلیں۔
- گیس لکچ / اخراج کو چیک کریں۔ بجلی کے استعمال کی چیزیں گیلی ہوں تو ہرگز استعمال نہ کریں۔
- مقامی ریڈیو سنتے رہیں تاکہ وارننگ اور تازہ ترین اطلاع سے باخبر رہیں۔
- اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو باضابطہ اطلاع ملنے پر بتائے گئے راستے سے واپس جائیں اور جلدی مت کریں۔
- سانپ کے کاٹنے سے بچنے کیلئے چھڑی اور ڈنڈا اپنے پاس رکھیں۔
- گرمی ہوئی بجلی لائنوں، تباہ شدہ پلوں، عمارتوں اور درختوں سے دور رہیں اور سیلابی پانی میں داخل نہ ہوں۔
- تمام وارننگز کو غور سے سنتے رہیں اور ساحل سمندر کی طرف نہ جائیں۔